

10th Nov, 2022

Due to public holiday on account of Allama Iqbal Day, the case is
adjourned to 07.12.2022 for the same as before.


Reader

05.07.2022

Muhammad Javid Khan Advocate present and submitted Wakalat Nama in favor of appellant.

Being freshly engaged, learned counsel for appellant requested for adjournment. Adjourned. To come up for preliminary hearing on 04.08.2022 before S.B at Camp Court, Swat.



(Rozina Rehman)
Member (J)
Camp Court, Swat

4. 8. 22

Due to summer vacation the case is adjourned to 4-10-22 for the same.



04.10.2022

Learned counsel for the present. Mr. Shams-ur-Rehman, S.I (Legal) alongwith Mr. Muhammad Jan, District Attorney for the respondents present.

Comments in consequence of pre-admission notice have already been submitted by the respondents. Let the appeal be admitted for regular hearing subject to all legal and valid objections including the question of limitation. The appellant is directed to deposit security fee within 10 days. To come up for rejoinder, if any, as well as arguments on 09.11.2022 before the D.B at Camp Court Swat.



(Salah-Ud-Din)
Member (J)
Camp Court Swat

1st June, 2022

Counsel for the appellant present.

Learned counsel for the appellant requested for adjournment on the ground he has not prepared the brief. Last opportunity granted. To come up for preliminary hearing before the S.B on 08.06.2022 at camp court Swat.



(Kalim Arshad Khan)
Chairman

8th June, 2022

Appellant in person present.

Counsel are on strike. To come up for preliminary hearing on 09.06.2022 before the S.B at camp court Swat.



(Kalim Arshad Khan)
Chairman
Camp Court Swat

9th June, 2022

Appellant in person present.

Counsel are on strike. To come up for preliminary hearing on 04.07.2022 before the S.B at camp court Swat.



(Kalim Arshad Khan)
Chairman
Camp Court Swat

01.11.2021

Appellant in person and Mr. Kabirullah Khattak, Addl. AG for respondents present.

Learned AAG requested for further time to submit written reply. Granted. To come up for reply/preliminary hearing on 05.01.2022 before S.B.



(Mian Muhammad)
Member(E)

05.01.2022

Counsel for the appellant present. Mr. Kabirullah Khattak, Addl. AG alongwith Amjad Alam, Assistant for respondents present.

Representative of the respondents has submitted written reply/comments. Placed on file. Learned counsel for the appellant requested for adjournment. Last opportunity is granted. To come up for preliminary hearing on 02.03.2022 before S.B.



(Rozina Rehman)
Member (J)

2-3-2022

Due to retirement of the Honorable Chairman the case is adjourned to come up for the same as before on $\frac{6}{2022}$

Dr.
Reader

20.04.2021

Due to demise of the Worthy Chairman the Tribunal is defunct, therefore, case is adjourned to 05.08.2021 for the same as before.


Reader


05.08.2021

Counsel for the appellant present. Pre-admission notice be issued to the respondents. To come up for written reply/preliminary hearing on 06.10.2021 before S.B.


Chairman

06.10.2021

Mr. Kamran Khan, Advocate, for the appellant present. Mr. Muhammad Adeel Butt, Additional Advocate General for the respondents present and sought time for submission of reply/comments. Adjourned. To come up for submission of reply/comments as well as preliminary hearing before the S.B on 01.11.2021.





(SALAH-UD-DIN)
MEMBER (JUDICIAL)

Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- 15909 /2020

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	14/12/2020	<p>The appeal of Mr. Muhammad Usman presented today by Mr. Shahzaullah Yousafzai Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2-		<p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>25/01/2021</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>
25.01.2021		<p>Mr. Shahzullah Yousafzai, Advocate, for appellant is present. He requested for adjournment due to non-preparation of the brief of the instant appeal. The request is acceded to, the appeal is adjourned to 20.04.2021 on which date file to come up for preliminary hearing before S.B.</p> <p style="text-align: right;"> (MUHAMMAD JAMAL KHAN) MEMBER (JUDICIAL)</p>

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR**

APPEAL NO. 15909/2020

MUHAMMAD USMAN VS POLICE DEPARTMENT

INDEX

S.NO.	DOCUMENTS	ANNEXURE	PAGE
1.	Memo of appeal	1-4
2.	Condo nation application		5-6
3.	Copy of FIR	A	7
4.	Copies of source reports	B	8-9
5.	Copy of second FIR	C	10
6.	Copy of impugned order	D	11
7.	Copy of mercy petition	E	12
8.	Statement of moharir	F	13
9.	Copy of inquiry	G	14-15
10.	Copy of departmental appeal	H	16
6.	Vakalat nama	17

APPELLANT

THROUGH:

**SHAHZULLAH YOUSAFZAI
ADVOCATE**

Flat no 4, Upper Floor,
Juma khan plaza near FATA secretariat,
Warsak road, Peshawar
0302-8578851

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR

APPEAL NO. _____/2020

Mr. Muhammad Usman Ex: Constable No.282,
District security Branch, District Shangla.

..... APPELLANT

VERSUS

- 1- The Inspector General Of Police Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- 2- The Regional Police Officer Malakand Region, At Saidu Sharif Swat.
- 3- The District Police Officer District Shangla.

.....RESPONDENTS

APPEAL UNDER SECTION 4 OF THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT 1974 AGAINST THE IMPUGNED ORDER DATED 02/01/2009 COMMUNICATED TO APPELLANT ON 25/07/2020 WHEREBY MAJOR PENALTY OF DISMISSAL FROM SERVICE WAS IMPOSED ON APPELLANT AND AGAINST THE IN ACTION OF RESPONDENTS BY NOT DECIDING DEPARTMENTAL APPEAL OF APPELLANT WITHIN STATUTORY PERIOD OF NINTEY DAYS.

PRAYER:

That on acceptance of this appeal the impugned order dated 02/01/2009 may kindly be set aside and the appellant may please be re instated into service with all back benefits. Any other remedy which this august Tribunal deems fit that may also be awarded in favor of the appellant.

R/SHEWETH:

ON FACTS:

Brief facts giving rise to the present appeal are as under:

- 1- That appellant was serving the respondents department as constable quite efficiently and up to the entire satisfaction of his superiors.
- 2- That it is pertinent to mention here that in 2008 militancy and terrorism was at its peak in the whole province and specially in malakand division therefore the appellant was posted in district security branch for tracing and collection of information regarding terrorists and transmitting the same to the high ups.

- 3- That it is pertinent to mention here that a bomb was blast near dandai on pak army convoy in which three personnel sustained severe injuries while one embraced shahadat. That an FIR no.125 dated 22/08/2008 was registered against unknown terrorists in police station besham regarding the aforementioned incident. Copy of FIR is attached as annexure.....**A.**
- 4- That it is also pertinent to mention here that the appellant submit his source report to his high ups on the same day regarding the incident and disclose the name of two terrorists who were involved/responsible for the bomb blast. Copies of source reports are attached as annexure **B.**
- 5- That it is also worth mentioning that on 27/08/2009 the SHO police station besham raided the house of terrorist khorshid on the basis of source report of appellant and on seeing the police party the terrorist khorshid along with other terrorists opened fire on police party as a result the SHO police station besham along with one constable embraced shahdat, that in cross fire the terrorist khorshid was also killed. That an FIR no.116 dated 27/08/2020 was registered regarding the incident in police station besham. Copy of FIR no. 116 is attached as annexure.....**C.**
- 6- That the two terrorist namely ibrar and khorshid who were the local commanders of TTP in district shangla were charged by appellant through source reports for different terrorist activities and finally terrorist khorshid was killed in police encounter. That it is pertinent to mention here that both these commander were belonging to village dandai and they were the co-villagers of appellant. That after the murder of khorshid terrorist ibrar and other were giving life threats to appellant and his parents therefore the appellant being elder and sole supporter of his family was forced by her parents to leave the country to avoid the wrath of terrorists, hence the appellant left the country for Saudi arabia on the repeated requests of his parents.
- 7- That the respondents issued the impugned order dated 02/01/2009 whereby the appellant was dismissed from service from the date of his absence. Copy of impugned order is attached as annexure.....**D.**
- 8- That in 2020 the appellant returned to Pakistan and the mother of appellant preferred mercy petition before

respondent no.2 for re instatement of appellant into service. That respondent no.2 refer the matter to respondents no.3 for inquiry and inquiry was conducted whereby the inquiry officer recommended the appellant for re instatement. Copies of mercy petition, statement of moharir PS Besham and inquiry report are attached as annexure.....E,F&G.

- 9- That feeling aggrieved from the impugned order dated 02/01/2009 the appellant preferred departmental appeal before respondents but the same has not been responded within statutory period of ninety days. Copy of departmental appeal is attached as annexure.....H.
- 10- That feeling aggrieved and having no other remedy the appellant filed the instant appeal on following grounds.

GROUND:

- A- That the impugned order dated 02/01/2009 communicated to appellant on 25/07/2020, whereby major penalty of dismissal from service was imposed on appellant, is against the law, facts and norms of natural justice hence not tenable in the eye of law and liable to be set aside.
- B- That the appellant has not been treated in accordance with law and rules by the respondent Department on the subject noted above and as such the respondents violated Article 4 and 25 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973.
- C- That the appellant was not willful absent rather due to compelling reasons he went abroad. That the compelling reasons due to which appellant went abroad has been properly inquired and same has been found true and genuine in the inquiry report.
- D- That the inquiry officer has properly explained the reasons due to which the appellant went abroad and the stance of appellant has been found true during inquiry therefore the inquiry officer recommended the appellant for re-instatement into service.
- E- That no show cause notice, charge sheet and statement of allegation has been served on appellant before imposing major penalty of dismissal from service.
- F- That no regular inquiry has been conducted in the matter before imposing major penalty which is mandatory under the rules.

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR

MUHAMMAD USMAN

V/S

POLICE DEPARTMENT

APPLICATION FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING
THE ABOVE TITLE SERVICE APPEAL.

R/SHEWETH:

- 1- That the above title service appeal is successfully instituted in this honorable court in which no date for hearing has yet been fixed.
- 2- That it is pertinent to mention here that that in 2008 militancy and terrorism was at its peak in the whole country and specially in Malakand division.
- 3- That appellant was performing duty in District security branch shangla and his job description was to collect information regarding terrorists and their activities and to intimate the same to high ups.
- 4- That it is pertinent to mention here that on 22/08/2008 a bomb was blast on army convoy near dandai in which one army personnel embraced shahadat while three others sustained severe injuries. That an FIR no. 125 was registered against unknown terrorists on the same day. That the appellant submit source report to his high ups regarding the incident in which he charged two terrorists namely khorshid and ibrar for bomb blast on army convoy.
- 5- That on the above mentioned source report SHO police station Besham along with other constables Raided the house of terrorist-khorshid on 27/08/2008 and on seeing the police party khorshid along with other terrorists open firing on police party as a result SHO and one constable embraced shahdat on the spot. That an FIR no.116 was registered regarding the aforementioned incident.
- 6- That it is very pertinent to mention here that both the above mentioned terrorists were co-villagers of the appellant and they had the knowledge that appellant was serving in DSB and information regarding their activities were conveyed to high ups by appellant therefore the above mentioned terrorist and other member of TTP shangla group were

giving life threats to appellant and his family. That appellant being elder son of his parents and sole supporter of his family was forced by his parents to leave the country in order to save his life and that of his family. That it is very pertinent to mention here that appellant left the country due to above stated compelling reasons.

- 7- That after his departure from the country the appellant was dismissed from service vide impugned order dated 02/01/2009. That appellant remained in Saudi Arabia and returned to Pakistan in 2020.
- 8- That after returning Pakistan in 2020 the appellant approached the respondents for joining duty but he was handed over the impugned dismissal order on 25/07/2020.
- 9- That it is pertinent to mention here that delay in filing the instant appeal is due to above stated reasons.
- 10- That the above stated reasons were beyond the control of appellant and constitute sufficient cause of action in term of section 5 of limitation act.

It is therefore, most humbly prayed that on acceptance of this application the delay in filing the instant appeal may kindly be condoned in the best interest of justice.

Dated: 10-12-2020

APPELLANT


MUHAMMAD USMAN

THROUGH:


SHAHZULLAH YOUSAFZAI
ADVOCATE

DSB

مستند

سورس الاراٹ

جناب عالی۔ مورخہ 22/08/2008ء بمقام ٹولہ می دم نم لیب نمبرہ باوردی واد

ارمی کی گاڑی پر ہذا ایچ ایچ کے ٹولہ میں پلاسٹک کی گئی تھی۔ اطلاعات اور نمبر اری

کھسار کے (1) مہنگی اہلکاروں کے قتل کے (2) فرسٹ ہیلپ ڈیسک سے سکاڑا گاڑی کے
نے لیب کی تھی۔ ہذا درالخصاص بالا سے باوردی لیب نمبرہ ڈیگر کسی بھی وارڈ سے
سرکاری اہلکار کو قصداً قتل نہ ہو سکا۔ اطلاعات کے مطابق مہنگی اہلکار
اور فرسٹ ہیلپ ڈیسک طالبان کے ساتھ روابط میں ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ

ڈیگر نمبرہ باوردی ہے۔ مورخہ 22/08/2008ء مہنگی اہلکار اور فرسٹ ہیلپ
باوردی واد کے قتل کے ارمی کی گاڑی اور جانوں پر پلاسٹک کی گئی تھی۔
ہذا درالخصاص بالا وقوع میں ممکن ہے کہ فرسٹ ہیلپ ڈیسک
علاقہ میں ہذا مورخہ ہے۔

سہ دستداروں کے مرتبہ کر کے افروزہ DSB نمبرہ
اور سبب ہے۔

ارازت علی ہے۔
سید ناصر محمد
22/08/2008

Handwritten signature and text at the bottom of the page.

جوابدہ

آج بروز 22/7/2024 بروز 25 بجے مقام کو ایڈمنسٹریٹو ڈیپارٹمنٹ میں سروس
 KKH پر آر جی ڈی کے گاڑی پر ایک ٹھکانہ پر بارودی مواد بم بارش
 کیا گیا اطلاع ملنے پر مقامی پولیس اور 5000 سپل کھانہ مقام پر
 سروس کرنے کے لئے روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی پولیس اور 5000 سپل کھانہ
 آر جی ڈی ڈیپارٹمنٹ کے ماتحت کرتے اور یہاں پر قیام کرنے کی اجازت
 نہیں دیا گیا ہے۔ اطلاعات اور برہماری کے مطابق آج کے دوران کوئی حادثہ
 اور گاڑی کے عمل کو نام نہان برہماری ہے۔ وہاں کے مقام پر
 معلومات اور برہماری جاری ہے۔ افسران بالا کو اطلاع دی جا رہی ہے

رپورٹ عرض ہے۔

مقامی

سیکشن آفیسر ڈیپارٹمنٹ
 مقامی مقام
 Date: 22/7/2024

Attached
81

D-11

ORDER:-

Constable Muhammad Usman No.282 was absented himself from 09.10.2008 to date with out proper permission of his superior.

He was served with Charge Sheet and Statement of allegation. Mr. Ejaz Hussain DSP Alpuri and Bahrudin Khan ASDPO Puran were appointed as Enquiry officers to conduct proper Departmental Inquiry against the defaulter Constable. The inquiry officers in their Finding Report recommended the defaulter Constable for discharged from service and period of absence is counted as leave without pay.


A Final Show Cause Notice was issued to the defaulter on 15.11.2008. But no reply of Final Show Case Notice was received in stipulated period i.e 15 days. SHO concerned report received that as per his Brother and father stated he has left for abroad and is no more willing to continue his service in Police Department.


Therefore, I Muhammad Iqbal Khan Marwat, District Police Officer Shangla, as a competent authority exercising the Power vested in me under N.W.F.P Removal from service Special Power Ordinance 2000. awarded to him a Major punishment i.e. dismissed from service with effect from the date of his absence i.e 09.10.2008.

Order announced.

OB No. 61

Dated. 02/10/2008


District Police Officer
Shangla.



بیان فرما سہلی محرم مکانہ سبحان

ریاضت بسلم اٹلوانہ بیان کیا کہ عثمان سال 2009 میں ساتھ سبحان بیٹے میں چھریں DSB
تغیبات تھا۔

جو کہ تیس ہجرت ملک کی دیگر حصوں کی طرح خصوصاً ملکین ڈیڑھ ہجرت میں طالبان کا دور دورہ تھا
اور مذکورہ عثمان جو کہ دینی کسانو تعلق رکھتا ہے دینی میں بھی طالبان کا فزور و اثر
میں تھا۔ تیس ہجرت میں مذکورہ نہ تھے کینت ہمراہ بیٹے طالبان کے متعلق آگاہ کیا
کہ جو طالبان کے طبقے دھمکان مل رہی ہے اور جو مشہور جانی خواہ ہے، اس وقت حال
میں عثمان مذکورہ نہ ہر وقت اکثر دن بالاکاؤٹس میں زمینی طور پر آگاہ کی تھی
نظر اس وقت کہ کئی چھ عثمان انما ڈیوٹی میں رہتا ہے اور یہ تھے جو فریاد تیس
منہ ڈیوٹی تھا۔ مذکورہ عثمان میں ساتھ ایک منہ بریکو اور ابھی انڈیا
کوڑکانا میں بھی قبیلہ نہیں رہا، جو کہ وہاں سے گھنٹہ گھنٹہ دیکھ کر انڈیا
وہ ڈیوٹی اور دینے میں جان بچانے کی خاطر ماضی میں تیس کے
کینت تھے کینت میں تیس میں اس میں ہے جو کہ تیس

28/07/2009
Bakht
28/07/2009
Bakht

دفتر ایس ڈی ٹی اے

روح پرست کوالیڈ درخواست گزاران زمین نیانی والیہ روڈ کھنٹیہل محمد خان

بیت ماں

بھائی شہزادہ درخواست گزاران زمین نیانی والیہ روڈ کھنٹیہل محمد خان 2852
2955 مورخہ 9-7-202 دفتر بیت ماں سٹیٹ پبلس سروس اوس صاحب صلح ٹرانزیکشن عدالت میں۔ یہاں سے
میت پرست نسبت عدالت دائرہ کار میں تعلقین کو جواب دے کے یہاں سے عدالت کے۔

۱۔ بیٹہ کھنٹیہل نر پابھی عمر قحان بٹہ
۲۔ نور محمد مین المہ نیشنل بینک میں۔

۳۔ محمد قاسم المہ سیران سندھ کے عدالتی محمد خان روڈ کھنٹیہل بیت ماں 2852

میت پرست والا تعلقین نے اپنے اپنے بیانات یہ عدالت میں تیار کرائی تھیں نمبر 09 2003۔

یہاں سے عدالت میں تیار ہوئے تھے۔ اور اس وقت انتہائی شدید تھے۔ نمبر FIR کے عدالتی اور عدالت

آئی اے کے کارڈ پر درج ہے کہ ہوا تھا جس میں کسی سید اور المہ میں لگن پان اور خورد شیدہ کے ساتھ ساتھ عدالت

بہرہ دے گئے۔ مذکورہ موزون واقعی انتہائی خطرناک قسم کے بہشت تھے۔ جن میں سے خورد شیدہ کے ساتھ عدالت

دوران پچھلے زنی مقامی پولیس اپاک آئی کے ساتھ تھریپ ہو کر بس میں ایس ایچ و ایس محمد خان اور تھریپ نر پابھی

ایس ڈی نمبر 8 شہید جبکہ ہوانی کاروائی میں مزم خورد شیدہ ولد کے ساتھ آیا تھا۔ یہ درست ہے کہ تھریپ مذکورہ عدالت

وقت خطر سے باہر تھی۔ چونکہ مذکورہ بہشت محمد خان کے ساتھ ایک گاڑی میں رہا تھا پڑھتے تھے۔ اور مذکورہ تھریپ

سے زنی سرانجام دینے انتہائی مشکل تھا۔ چونکہ مذکورہ کھنٹیہل اس وقت ڈسٹرکٹ سیکورٹی برانچ میں تھی اس لیے

بہشت گزاروں کے نسبت اطلاعات فراہم کر رہا تھا۔ (بیانات لفٹ مشمولہ ہیں)

اس کے علاوہ دیگر حالات و واقعات کے نسبت یہ درست ہے کہ اس وقت حالات واقعی انتہائی شدید تھے۔

ایس ایچ اے محمد خان کے شہادت کے بعد سال 2012 میں بمقام ڈب ڈیوٹی ایک چیئر لفٹ میں قیامت آپکاروں پر

IED بمباری لگی تھی۔ اس کے کچھ گھنٹے بعد بمقام ڈاٹ ایس ایچ اے شہزاد حسن کے ساتھ بائیس گاڑی پر IED بمباری ہو کر

پس میں ایس ایچ اے صاحب مدد گھر کھنٹیہل ان معمولی زخمی جبکہ گاڑی کا ڈرائیور کھنٹیہل حنیف الحق کے دونوں ہاتھوں پر

طرح زخمی ہوئے تھے۔ اور گاڑی بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔


Attached

اعلامہ تحقیقات :-

- ۱۔ دوران انکوائری تحقیقات میں بیانات دو گہرے کاغذات سے پایا گیا کہ :-
کنستبل مذکورہ بالا امر میوڑی غیر حاضر ہو کر رہت گروئی کی وجہ سے باہر ملک - مووی مرب جا چکا تھا۔
- ۲۔ مذکورہ ذمہ دار بی بی کا درخواست حقیقت پائی ہے۔
- ۳۔ محمد قاسم اور محمد مہین کے بیانات سے یہ واضح ہے کہ واقعہ کنستبل مذکورہ کو افسرہ لائق تھا۔ چونکہ مذکورہ افسر گت سے گورنی برانچ میں تعینات تھا، وہ رہت گروئی کی بہت لست پر تھا۔

سفارشات :-

مندرجہ بالا حقائق کے پیش نظر مذکورہ مساہدہ کنستبل محمد مہین نمبر 282 کو انکوائری میں پولیس میں بحال کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ دیگر افسران بالا صاحبان کا حکم انضام ہے۔ انکوائری رپورٹ مرتب ہو کر تشریح ہے۔
نوٹ - (کل 18 قطعہ لف مشمولہ ہیں)


ایس ڈی بی

بشام

نمبر 1078 ریڈر - مورخہ 06 اگست 2020ء

attached
81

14-16

بعضور جناب ریجنل پولیس سربراہ صاحب ملاکنڈ ڈویژن بمقام مسیٹر شریف سمرات

درخواست سزا بذریعہ عدالت

عنوان:

جناب عالی!

درخواست ذیل عرض ہے۔

- ۱۔ یہ کہ سائل تحصیل بنام برکے زندگی شاعر شاہ زنگہ کا اہلی و جوی بائندہ ہے۔
- ۲۔ یہ کہ سائل سال 2004 میں بحیثیت کنسٹیبل ملکہ پولیس میں بھرتی ہوا۔
- ۳۔ یہ کہ بدوران ملازمت سائل نے مختلف مقامات پر ایوانداری اور خوش اسلوبی کے اپنی فرائض منصبی سرانجام دیے۔
- ۴۔ یہ کہ بدوران ملازمت سائل کو بحال ارڈر نمبر 39 مورخہ 02.05.2008 خانہ بنام سے ڈسٹرکٹ سیکورٹی برانچ ٹیکسٹ B قیادت کیا گیا۔
- ۵۔ یہ کہ سال 2008 میں ملک بھر خفیہ و سائل لاکھ ڈویژن کے حالات ایجوکیشنل کمیشن سرکاری اہلکاران بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لئے انتہائی خطرناک دور تھا۔
- ۶۔ سائل ایسے حالات میں اپنی ذہنی گواہانداری اور دباؤ اندازی کے ساتھ انجام دیتے ہوئے دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں پر سخت نگرانی کے ساتھ ان کے خلاف انصران بالا کو بروقت یقینی اطلاعات بذریعہ دوسرے رپورٹ فراہم کرتا رہتا تھا۔
- ۷۔ یہ کہ مورخہ 22.08.2008 کو قراقرم ہائے وے پر ہجوم لڑائی میں سائل نے شہداء اور دی مواد آرمی جوانوں پر باسٹ کیا کیا جس سلسلے میں سائل نے بروقت اطلاعاً رپورٹ انصران بالا کو ارسال کر کے جس پر مقدمہ نمٹ 125 مورخہ 22.08.2008 جرم 302,324 PPC, 677 ATA قیادت بنام بر خلاف ملزم اہلکاران نامعلوم درجہ رجسٹری ٹی (اطلاعاً رپورٹ، نقل FIR نمبر الف ہے)
- ۸۔ یہ کہ مقدمہ عدوان بالا میں ملزم نام، معلوم کی معلومات اور پتہ برادری کرتے ہوئے سائل مورخہ 28.02.2008 پر اہلکاران تک بذریعہ میسج برائی حاصل کر کے انصران بالا کو رپورٹ پیش کی (سورس رپورٹ نمبر الف ہے)۔
- ۹۔ یہ کہ سائل نے مورس رپورٹ پر ملزمان کی نامزدگی کے بعد سائل کو حالت خود میں ملزمان کی طرف مختلف قسم کی دھمکیاں دیں، باشرعہ ہو گئی لیکن سائل نے حوصلہ مندگی کے ساتھ اپنی فرائض منصبی سرانجام دیتے ہوئے سارے حالات واقعات سے انصران بالا کو آگاہ کرنا جاری رکھا۔
- ۱۰۔ یہ کہ سائل ایک فریب خیز خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اپنے ضعیف والدین اور کنبے کا واحد سہارا کفالت ہونے کے ناطے والدین نے دہشت گردوں کی دھمکیوں کی وجہ سے کچھ وقت کے لئے ملک بدر کرنے پر مجبور کیا۔
- ۱۱۔ یہ کہ سائل نے اپنے والدین کو طعن کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس وقت کے ہشتگردی کے گرم تاحول کی وجہ سائل کے والدین مطمئن نہ ہو سکے اس لئے سائل کو پرامن طور پر سزا دی گئی اور سائل کی وجہ سے سائل نکل کر پولیس سے مورخہ 09.10.2008 سے غیر حاضر ہوا۔
- ۱۲۔ یہ کہ پیدہ غیر حاضری سائل کے خلاف نفاذ آگاہی شروع ہو کر بعد آگاہی بحال ارڈر نمبر 01 مورخہ 02.01.2009 پولیس سے بنیاد کیا گیا۔ نقل ارڈر نمبر الف ہے۔
- ۱۳۔ یہ کہ جہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سائل کے سورس رپورٹ پر نامزد ملزم خورد و ولد ملکہ سکنہ زندگی پر پھانسی زنی کے دوران مقامی پولیس اہلکاروں نے سائل کو گرفتار کر کے اس کے نتیجے میں مقامی قیادت بنام سے SHO اہلکاران اور کنسٹیبل ایئر رٹس نمبر BISPO مورس پر شہید ہوئے جبکہ بدوران پولیس اہلکاروں کا یہ نام بھی ہلاک ہوا۔ نقل FIR نمبر الف ہے۔
- ۱۴۔ یہ کہ سائل انتہائی مجبوری کی وجہ سے ملکہ پولیس ایجنسیوں کے علاوہ باغیہ حاضر ہوا ہے، لہذا استدعا ہے کہ سائل کی فریب اور ترمیموں کو پیش نظر رکھ کر سائل کو دوبارہ ملکہ پولیس میں بحال کرنے کے احکامات صادر فرمائیں تو سائل تاحیات دماغی رہے گا۔

سماجی سیکرٹری
0341-5030044
16/08/2020

Attested
[Signature]

"B"

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,
PESHAWAR. S.B.

No.

Appeal No. 15909 of 20 20

Muhammad Usman Appellant/Petitioner

Versus

The I.C.P. - P.K.P.K. Respondent

Respondent No. 2

Copy

Notice to: -

The Regional Police Officer Malakand
Region at Saidu Sharif Swat.

WHEREAS an appeal/petition under the provision of the Khyber Pakhtunkhwa Province Service Tribunal Act, 1974, has been presented/registered for consideration, in the above case by the petitioner in this Court and notice has been ordered to issue. You are hereby informed that the said appeal/petition is fixed for hearing before the Tribunal on 6/10/2021 at 8.00 A.M. If you wish to urge anything against the appellant/petitioner you are at liberty to do so on the date fixed, or any other day to which the case may be postponed either in person or by authorised representative or by any Advocate, duly supported by your power of Attorney. You are, therefore, required to file in this Court at least seven days before the date of hearing 4 copies of written statement alongwith any other documents upon which you rely. Please also take notice that in default of your appearance on the date fixed and in the manner aforementioned, the appeal/petition will be heard and decided in your absence.

Notice of any alteration in the date fixed for hearing of this appeal/petition will be given to you by registered post. You should inform the Registrar of any change in your address. If you fail to furnish such address your address contained in this notice which the address given in the appeal/petition will be deemed to be your correct address, and further notice posted to this address by registered post will be deemed sufficient for the purpose of this appeal/petition.

No-Admission Notice

Copy of appeal is attached. Copy of appeal has already been sent to you vide this

office Notice No.....dated.....

Given under my hand and the seal of this Court, at Peshawar this 17/10

Day of Aug 20 21

(For Reply)

[Signature]
Registrar,

Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,
Peshawar.

Note: 1. The hours of attendance in the court are the same that of the High Court except Sunday and Gazetted Holidays.
2. Always quote Case No. While making any correspondence.

"B"

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD
PESHAWAR. SB

No.

Appeal No. 15909 of 20 20

Muhammad Usman Appellant/Petitioner

The I-G-P KPK Versus Respondent

Respondent No. 3

Notice to: the Distt. Police Officer Distt. Shangla.

Reqd

WHEREAS an appeal/petition under the provision of the Khyber Pakhtunkhwa Province Service Tribunal Act, 1974, has been presented/registered for consideration, in the above case by the petitioner in this Court and notice has been ordered to issue. You are hereby informed that the said appeal/petition is fixed for hearing before the Tribunal *on 6/10/2021 at 8.00 A.M. If you wish to urge anything against the appellant/petitioner you are at liberty to do so on the date fixed, or any other day to which the case may be postponed either in person or by authorised representative or by any Advocate, duly supported by your power of Attorney. You are, therefore, required to file in this Court at least seven days before the date of hearing 4 copies of written statement alongwith any other documents upon which you rely. Please also take notice that in default of your appearance on the date fixed and in the manner aforementioned, the appeal/petition will be heard and decided in your absence.

Notice of any alteration in the date fixed for hearing of this appeal/petition will be given to you by registered post. You should inform the Registrar of any change in your address. If you fail to furnish such address your address contained in this notice which the address given in the appeal/petition will be deemed to be your correct address, and further notice posted to this address by registered post will be deemed sufficient for the purpose of this appeal/petition.

1/2 - Admission Notice

Copy of appeal is attached. ~~Copy of appeal has already been sent to you vide this office Notice No.....dated.....~~

Given under my hand and the seal of this Court, at Peshawar this 17/15

Day of Aug 20 21

(for Reply)

[Signature]
Registrar

Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,
Peshawar.

Note: 1. The hours of attendance in the court are the same that of the High Court except Sunday and Gazetted Holidays.
2. Always quote Case No. While making any correspondence.

بعدالت جناب حد سروس ٹریبونل KPK بھتام لیٹا اور برائے ٹیب کورٹ سوات

مورخہ 05 جولائی 2022ء منجانب ایڈوائٹ

مقدمہ محمد عثمان بنام حکومت بڈر علی کلمہ لیس و منہرہ
دعویٰ سروس ایبل نمبر 15909/20
جرم

باعث تحریر آنکے

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنے طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی و کل کارروائی متعلقہ آن مقام ٹیب کورٹ سوات کیلئے محمد جاوید خان ایڈووکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ برحلف دینے جواب دہیا و اقبال دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق زر اور اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا۔ نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری ایک طرف اپیل کی برآمدگی اور منسوخ مذکور کے مکمل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنی ہمراہ یا اپنی بجائے تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہونگے اور اسکا ساختہ برواختہ منظور و قبول ہوگا۔ اور دوران مقدمہ میں جو خرچہ و ہرجانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا اسکے مستحق وکیل صاحب ہونگے۔ نیز بقایا و خرچہ کی وصولی کرتے وقت کا بھی اختیار ہوگا۔ اگر کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہونگے کی پیروی مقدمہ مذکور لہذا وکالت نامہ لکھ دیا کہ سند رہے

2022

ماہ جولائی

المرقوم 05

العبد

گواہ شد

العبد

محمد عثمان - ایڈوائٹ

Attest Accepted by
M. Jawid Khan
A.S.C
03439607472

العبد

گواہ شد

العبد

مقام
M. Jawid Khan
A.S.C
03439607472

کیلیکٹ کورٹ سوات کل مرہ

VAKALATNAMA

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR

_____ OF 2020

Muhammad usman

(APPELLANT)
(PLAINTIFF)
(PETITIONER)

VERSUS

police DEPT -

EDUCATION DEPT

(RESPONDENT)
(DEFENDANT)

I/We Muhammad usman

Do hereby appoint and constitute **SHAHZULLAH YOUSAFZAI, Advocate, Peshawar** to appear, plead, act, compromise, withdraw or refer to arbitration for me/us as my/our Counsel/Advocate in the above noted matter, without any liability for his default and with the authority to engage/appoint any other Advocate Counsel on my/our cost. I/we authorize the said Advocate to deposit, withdraw and receive on my/our behalf all sums and amounts payable or deposited on my/our account in the above noted matter.

Dated. ____/____/2020

Usman
CLIENT(S)

SHAHZULLAH YOUSAFZAI
ACCEPTED

&

KAMRAN KHAN
ADVOCATES